

PRESS RELEASE

For immediate release

December 31, 2020

SECP allows digital accounts opening for mutual fund investors

ISLAMABAD, December 31: As part of its efforts to usher in a new era of smart investments, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), has introduced the digital onboarding mechanism for investors of the Asset Management Companies (AMCs). In this respect, SECP has issued Circular No 35 of 2020 and placed on its website.

The Digital Onboarding mechanism offers investors not only a seamless account opening process for investments in mutual funds but also eliminates the requirement of physical presence and submission of physical documents. The AMCs are now allowed to conduct online Customer Verification process for opening of online accounts to ensure investor protection and compliance with all the applicable relevant legal and regulatory framework.

Furthermore, the mechanism introduces digital verification for authentication of the investor and original identification documents through virtual meeting application (WhatsApp, Skype, etc.) for online face to face interaction on real time basis. In addition, a simpler account opening process eliminates the physical signing of different forms and declarations by the investors.

Introduction of Digital Onboarding Mechanism reflects the SECP's continued commitment towards digitization, while ensuring growth of the non-bank financial sector and capital markets. The virtual onboarding of investors in Pakistan is expected to boost innovation and competition in the mutual fund industry encouraging the use of financial technology and fostering financial inclusion. SECP believes that as the industry transitions towards the digitization of financial services, digital onboarding will soon become the norm in the industry.

ایس ای سی پی نے میوچل فنڈ کے سرمایہ کاروں کو آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت فراہم کر دی
اسلام آباد (دسمبر 31): پاکستان میں سمارٹ سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے
ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں (ای ایم سیز) کے سرمایہ کاروں کے آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ متعارف کروایا ہے۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے
لئے نئے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت استعمال کرتے ہوئے کہیں سے بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔

میوچل فنڈز میں اپنا اکاؤنٹ کے لئے تمام معلومات اور دستاویزات آن لائن جمع کروائی جاسکتی ہیں سکیں گے جبکہ سرمایہ کار (صارف) کی تصدیق کا عمل بھی
آن لائن ہی مکمل کیا جائے گا۔ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں سرمایہ کار کی تصدیق اور براہ راست رابطہ کے لئے سکاٹپ اور وٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکیں
گی۔ سرمایہ کاروں کی آسانی کے لئے مختلف فارمز پر دستخط اور ڈیکلریشن کی شرائط کو خذف کر دیا گیا ہے۔

آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کا یہ نیا نظام نان بینکنگ فنانشل سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹ کی ترقی کو یقینی بنانے کے لئے ایس ای سی پی کے اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل
ہے جس سے میوچل فنڈ انڈسٹری میں جدت پیدا ہوگی، کمپنیوں کے مابین مقابلہ کے رجحان کو فروغ ملے گا اور ملک میں مالیاتی شمولیت کو فروغ ملے گا۔